



تذکرہ سوانح

لَا دُشْمَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ إِلَّا بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ
فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ الَّذِي هُوَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

کے انکار سے نہ ہونے کے باوجود ان کے کفر کی بنا پر وہ کافر ہیں اور

ان کے لیے عذابِ اللہ ہے جو عذابِ دردناک ہے۔

کے کفر سے نہ ہونے کے باوجود ان کے کفر کی بنا پر وہ کافر ہیں اور

ان کے لیے عذابِ اللہ ہے جو عذابِ دردناک ہے، ان کے کفر کی بنا پر وہ کافر ہیں اور

ان کے لیے عذابِ اللہ ہے جو عذابِ دردناک ہے۔

ان کے لیے عذابِ اللہ ہے جو عذابِ دردناک ہے۔



ان کے لیے عذابِ اللہ ہے جو عذابِ دردناک ہے،



(خبریں)

وَلَا يَجْرِمُونَكَ مَا جَرَّمُوا رَبَّهُمْ لَمَا كَانُوا يُضِلُّونَ
أَنْفُسَهُمْ فَيُضِلُّونَ لِقَاءَ رَبِّهِمْ

تو، ان کے لیے عذابِ اللہ ہے جو عذابِ دردناک ہے۔

ان کے لیے عذابِ اللہ ہے جو عذابِ دردناک ہے، ان کے کفر کی بنا پر وہ کافر ہیں اور

ان کے لیے عذابِ اللہ ہے جو عذابِ دردناک ہے، ان کے کفر کی بنا پر وہ کافر ہیں اور

ان کے لیے عذابِ اللہ ہے جو عذابِ دردناک ہے۔

تو، ان کے لیے عذابِ اللہ ہے جو عذابِ دردناک ہے۔